



عَارِسْتِي مَرْتِي مَرِي



دَرَسْتِي مَارِسْتِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَاصِمُ بْنُ مَرْثَدٍ

مَوْلَى مَرْثَدِ بْنِ مَرْثَدٍ

بَنِي مَرْثَدِ بْنِ مَرْثَدٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ مَسْجِدِ قَوْسِ اِسْرَىٰ! اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ!

وَقَرَّ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

وَقَرَّ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

وَقَرَّ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

وَقَرَّ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

وَمَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ!!

اِسْرَىٰ، ﴿لَٰكِن شَكَرْتُمْ لَآزِيدَنَّكُمْ﴾⁴ وَاِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ.

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ، اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ،

اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ مَوْجِبِ اِسْرَىٰ.

4. اِسْرَىٰ مَوْجِبِ: 7

ایسے کی عبادت کی بیخ کنی کے لئے، ان کے لئے ایسے کی عبادت کی تہذیب کی

تعمیر کی جائے۔ ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی

جائے۔ ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی

تعمیر کی جائے۔ ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

5. ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کے لئے، ایسے کی عبادت کی تہذیب کی تعمیر کی جائے۔

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים,

בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע,

בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע,

בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע,

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

אֵלֶּיךָ יְיָ אֱלֹהֵינוּ בְּאֵרֵי הַמִּצְדִּיקִים וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע וְנִשְׁמָע.

ايسرى موكچي پير،

وَمِنْ اَشْيَا حَجِّ اَيْسَرَى مَوْجِدٌ مَسْرُوعٌ مَسْرُوعٌ

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير، ايسرى موكچي پير،

